



سوال

(374) والدین کے لیے قرآن پڑھ کر بخشنا

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

میں اپنے والدین کے لیے جو بالکل ان پڑھ ہیں، قرآن کریم پڑھنا اور انہیں بخشنا چاہتا ہوں، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ اور کیا کسی پڑھے لکھے کے لیے بھی قرآن پڑھ کر بخش سکتا ہے اور کیا یہ کام ایک سے زیادہ آدمیوں کے لیے بھی کیا جاسکتا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ یا آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ قرآن کریم پڑھ کر ماں باپ یا کسی دوسرے کو بخشا جاسکے۔ اللہ عزوجل نے قرآن مجید پڑھنا اس لیے مشروع فرمایا ہے کہ اس سے نفع و استفادہ حاصل کیا جائے، اس کے معانی میں غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

کَتَبَ آتِزْنَةً لِّیْکَ مُبْرَکٌ لِّیَذَّبَ رِءُءِآئِہِمْ وَلِیَنْذَرُوْا الْاَلْبَابَ ۚ ۲۹ ... سورۃ ص

”یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، بڑی برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت پائیں۔“

اور فرمایا:

اِنَّ ہٰذَا الْقُرْآنَ اَنْ یَّیْدِیْ لَلَّتِیْ ہِیْ اَقْوَمُ ۙ ۹ ... سورۃ الاسراء

”یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے بڑھ کر سیدھا ہے۔“

اور فرمایا:

قُلْ یُّوْلٰئِذِہِمْ اٰمَنُوْا بِہِیْ وَشَفَاءٌ ۙ ۴۴ ... سورۃ حم السجدۃ

”کہہ دیجیے یہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔“

اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے: ”قرآن کریم پڑھا کرو، بلاشبہ یہ قیامت کے روز پینے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔“ (صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين و قصرھا، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حدیث: 804۔ السنن الکبریٰ للبیہقی: 395/2، حدیث: 3862)

اور آپ نے فرمایا ہے کہ: ”قیامت کے روز قرآن کریم اور قرآن والوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے رہے، سورہ بقرہ اور آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی جیسے کہ دو بدلیاں ہوں، یا پرندوں کے دو جھنڈ، پہلے اہل سے دفاع کریں گی۔“ (صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين و قصرھا، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حدیث: 805 و مسند احمد بن حنبل: 183/4، حدیث: 17674)

الغرض قرآن کریم تہ تبر اور عمل کے لیے نازل ہوا ہے، عبادت و تلاوت کے لیے نازل ہوا ہے کہ اس کی کثرت سے تلاوت کی جائے، نہ اس لیے کہ اموات یا دوسروں کے لیے ہدیہ کیا جائے اور انہیں بخشا جائے۔ میرے علم میں قرآن و حدیث میں ایسی کوئی قابل اعتماد دلیل نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اسے ماں باپ یا دوسروں کے لیے بخشا جاسکتا ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے:

”جس نے کوئی ایسا عمل کیا، جس کے متعلق ہمارا کوئی ارشاد نہ تھا تو وہ مردود ہے۔“ (صحیح بخاری، کتاب الصلح، باب اذا اصطلوا علی صلح جور ف صلح مردود، حدیث: 2550 و صحیح مسلم، کتاب الاقضیہ، باب نقض الاحکام الباطلہ، حدیث: 1718 و مسند احمد بن حنبل: 6/146، حدیث: 25171 و اسنادہ صحیح۔)

اگرچہ اہل علم کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر بخشنا جائز ہے، اس طرح اور بھی کچھ اعمال صالحہ یتوں یا دوسروں کو بخشے جاسکتے ہیں، اور وہ اسے دعا اور صدقہ پر قیاس کرتے ہیں، مگر مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں پہلا قول ہی صحیح ہے (کہ اس کا بخشنا جائز نہیں ہے)۔ کیونکہ اگر تلاوت قرآن کا ہدیہ کرنا اور بخشنا جائز ہوتا تو سلف صالحین (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام) ضرور اس پر عمل کرتے۔

اور عبادت کے مسئلہ میں قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ عبادت سراسر توفیقی عمل ہے، اس کے لیے قرآن کریم یا نبی علیہ السلام کی صریح نص ہونی چاہئے جیسے کہ اوپر کی حدیث میں واضح آیا ہے۔

اور یہ مسئلہ کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، دوسرے کی طرف سے حج اور عمرہ کرنا، اور میت کے ذمے داروں کا ادا کرنا، یہ سب ایسی عبادتیں ہیں کہ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بالکل صحیح ہیں۔ جس کی طرف سے حج و عمرہ کیا جا رہا ہے وہ یا توفوت ہو چکا ہو، یا انتہائی بوڑھا ہو، یا ایسا مرض ہو کہ اس کے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو۔

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 312

محدث فتویٰ